

آگ سے تحفظ کے مفید مشورے

تہاکو نوشی سے محفوظ رہنا



سگریٹ نوشی ہمیشہ باہر جا کر کریں،
اندر کبھی نہیں۔



ٹوٹوں کو بالکونی سے باہر نہ پھینکیں۔
اس سے پڑوسیوں کی بالکونی میں آگ
لگ سکتی ہے۔



اپنے سگریٹ کے ٹوٹوں کو ایش ٹرے،
دھاتی کین یا بالٹی میں ڈالیں۔ انہیں
پانی میں بھگو دیں یا ریت میں محفوظ
طور پر دبا دیں۔



ٹوٹوں کو گملے والے پودوں یا آرائشی
زمین پر مت پھینکیں۔



اگر آپ کو نیند آرہی ہو، آپ نے ایسی
ادویات وغیرہ استعمال کی ہوں جن سے
آپ کو غنودگی آتی ہو یا شراب نوشی
کی ہوئی ہو، تو تہاکو نوشی پر گز نہ
کریں۔



جہاں معالجاتی آکسیجن استعمال ہوتی
ہو، وہاں کبھی بھی سگریٹ نوشی نہ
کریں۔



بالکونیوں میں سگریٹ نوشی کے بارے
میں مزید رہنمائی کے لیے اپنی عمارت
کے پراپرٹی مینیجر سے پوچھیں۔ ہو سکتا
ہے کہ کچھ مقامات پر اس کی اجازت
نہ ہو۔



Mississauga Fire
& Emergency Services

کوئی سوالات ہیں؟ ہم سے رابطہ کریں:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908

mississauga.ca/fire

fire.prevention@mississauga.ca